



محدث فلوفی

## سوال

(203) "جس حدیث میں خفیف ضعف ہو"

## جواب

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

بعض اہل حدیث اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ "جس حدیث میں خفیف ضعف ہو" تو اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ (فتاویٰ المدینہ: 73)

## اجواب بعون الوہاب بشرط صحیح السؤال

و علیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

الحمد لله، والصلوة والسلام على رسول الله، أما بعد!

پہلی بات: ایسی ضعیف حدیث کہ جس میں بلکا ضعف ہو اس پر عمل کرنے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔

دوسری بات: کسی ضعیف حدیث پر عمل کرنا فتویٰ ہینے کا مطلب کہ اس میں کوئی بدعت ضرور شامل ہوگی۔ تو کوئی بھی دعا یا عمل کہ جس کے بارے میں کوئی حدیث ثابت نہ ہو تو اس پر عمل کرنا بدعت ہے اور ہر ضعیف حدیث سے کسی نہ کسی چیز کا مشروع ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تو شریعت سازی تو صرف صحیح حدیث سے ہو سکتی ہے۔ صرف ایک صورت میں ضعیف حدیث پر عمل ہو سکتا ہے کہ جب وہ حدیث اعمال کی فضیلت کے بارے میں ہو۔

لیکن قائل کا یہ کہنا کہ ضعیف حدیث پر فضائل اعمال میں عمل ہو سکتا ہے یہ ایسا کلام ہے کہ اس کا اول آخر کے مخالف ہے اور اخراں کے مخالف ہے۔ تو ہم اس وقت کہتے ہیں: فضائل اعمال میں ضعیف حدیث تو اس کا عمل کرنا ضعیف حدیث پر یہ حدیث کے ضعف کو ثابت کرتا ہے یا اس کے علاوہ کو؟

اگر ہم ضعیف حدیث کو ثابت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ فضائل اعمال کو اس ضعیف حدیث سے ثابت کر رہے ہیں یا کسی اور چیز کے ساتھ؟ اگر ہم اس ضعیف حدیث سے ثابت کرتے تو مطلب یہ کہ ہم نے ایک حکم ضعیف حدیث کے ذریعہ ثابت کیا۔

اور اگر ایک عمل کی فضیلت صحیح حدیث سے بھی ثابت ہو تو ایسی صورت میں عمل ضعیف حدیث پر تو نہیں ہو کیونکہ ایسی صورت میں ضعیف حدیث کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے بلکہ عمل تو صرف صحیح حدیث پر ہو گا۔

حذما عندی والله أعلم بالصواب



جعفریہ اسلامیہ  
الریسیخیہ  
مددِ فلسفی

## فتاویٰ البانیہ

اصول حدیث علیٰ حدیث اور اسماء رجال کا بیان صفحہ: 280

محمد فتویٰ